

برامپٹن کا بیک یارڈ گارڈن پروگرام نے ضرورت مند رہائشیوں کو 10,000 پونڈ سے زیادہ غذائی اشیاء فراہم کی ہیں

برامپٹن، آن (20 اکتوبر، 2020) – اپریل سے اکتوبر 2020 تک ضرورت مند رہائشیوں کو 10,000 پونڈ سے زیادہ پیداوار عطیہ کرنے کے ساتھ سٹی آف برامپٹن کا بیک یارڈ گارڈن پروگرام اب پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔

بیک یارڈ گارڈن پروگرام جو سٹی کونسلر ٹوگ وبلینز، وارٹن 2 اور 6 کی زیر صدارت چلایا جا رہا ہے اور اس کو سٹی پارکس میٹیننس اور فارسٹری ڈویژن کا تعاون حاصل ہے، یہ پروگرام کووڈ-19 کے ردعمل میں 15 اپریل کو شروع کیا جانے والا اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے۔ یہ موجودہ طور پر جاری کمیونٹی گارڈن پروگرام کی ایک توسیع ہے۔

اس پروگرام نے [میزرز کووڈ-19 سوشل سپورٹ ٹاسک فورس](#) کے لیے غذائی وسائل فراہم کیے ہیں جو برامپٹن کی کمزور کمیونٹیز کے لیے سماجی معاونت پیش کرتا ہے۔

برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی خدمت میں پیش کیے جانے والے اس پروگرام نے رہائشیوں کو ان کے نئے گارڈن کے لیے مٹی، بیجوں کے پیکیجز اور کاشت کے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے۔ اپریل سے اکتوبر کے مہینوں کے دوران رہائشیوں نے اپنے بیک یارڈز میں کافی مفید اشیاء اگائی ہیں، جن میں سے کچھ لوگوں نے اپنی پیداوار اپنے پاس رکھی ہے جبکہ کچھ نے مقامی فوڈ بینکس اور کمیونٹی کی تنظیموں بشمول نانٹس ٹیبل، ریجنریشن، خالصہ ایڈ اور یونائیٹڈ سکھ جیسی تنظیموں کو عطیہ کی ہیں۔

اس ماحول دوست قدم نے ضرورت مند رہائشیوں کو معاونت فراہم کرنے کے علاوہ کووڈ-19 کے دوران رہائشیوں کو چست رہنے میں حوصلہ افزائی بھی کی اور برامپٹن کے رہائشیوں کو اپنے گھروں پر مفید سرگرمیاں فراہم کر کے ان کی ذہنی صحت کو بھی بہتر بنایا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ باغبان بننے والوں کے لیے باغبانی کے بارے میں جاننے اور ایک نیا شوق آزمانے کا ایک نادر موقع تھا۔

سٹی آف برامپٹن اس پروگرام کو ممکن بنانے میں مدد فراہم کرنے والے اپنے معاونین اسکاٹ، میٹیمے ہومز، پیراڈائیز ڈیولپمنٹس، TACC ہالبرن کارپوریشن اور فیلڈ گیٹ ڈیولپمنٹس کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔

عددی لحاظ سے

- پروگرام کے آغاز کے تین دنوں کے اندر 6,000 رہائشی رجسٹر ہوئے۔
- پروگرام میں شامل ہونے والے افراد تک مفت بیج پہنچانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے 45 سے زیادہ رضاکاروں نے 490 گھنٹوں سے زیادہ مدد فراہم کی۔
- عملے اور رضاکاروں نے حصہ لینے والے افراد میں 3,057 یارڈ بلک مٹی؛ مٹی کے 8,553 بیگ اور 162,15 بیجوں کے پیکیٹ فراہم کیے۔

اقتباسات

"ہم نے بیک یارڈ گارڈن پروگرام اور کونسلر وبلینز کی لیڈرشپ پر ایک لاجواب اعتماد دیکھا ہے اور کینیڈا میں اپنی نوعیت کے اس پہلے شاندار قدم، جو قرب و جوار اور دور دراز کے دیگر شہروں کے لیے ایک مثال ہے، میں کامیاب ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ کووڈ-19 سوشل سپورٹ ٹاسک فورس نے نانٹس ٹیبل اور ریگین کے ذریعے مشکل کی اس گھڑی میں برامپٹن کے رہائشیوں کو غذائی اشیاء میں ضروری معاونت فراہم کی ہے اور پیداوار اگانے اور عطیہ کرنے والے تمام لوگ نے فوڈ بینکس پر پریشر میں کمی لائی ہے، ماحول کی معاونت کی ہے اور ہم سب کو فخر محسوس کرایا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہمارا پہلا بیک یارڈ گارڈن پروگرام برامپٹن میں بہت کامیاب ہوا ہے۔ ہم نے ہزاروں رہائشیوں کو مٹی اور بیج فراہم کیے ہیں جس سے ضرورت مند رہائشیوں کو 10,000 پونڈ سے زائد پیداوار حاصل ہوئی ہے۔ میں ہر ایک رہائشی اور کاروبار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں

جو اس گیم چینجنگ اقدام کا ایک حصہ بنا اور جس نے سب کو باغبانی کرنے، بیرونی ماحول سے لطف اندوز ہونے اور اس سال اپنی کمیونٹی کو کچھ واپس لوٹانے کی ترغیب دی ہے۔"

- ٹوگ ولہینز، سٹی کونسلر، وارڈز 2 اور 6، سٹی آف برامپٹن

"سٹی سٹاف نے بیک یارڈ گارڈن پروگرام پر عمل درآمد کر کے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ عزم اور احساس کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم حاصل ہونے والے نتائج سے بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں۔ برامپٹن ایک گرین سٹی ہے، جو کونسل کی ترجیح کی کلیدی اصطلاح ہے اور اس پروگرام نے رہائشیوں کو چست رکھا ہے اور برامپٹن میں رہنے والے افراد اور خاندانوں کو فوڈ اسکورٹی دی ہے۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن بیک یارڈ گارڈن پروگرام ایک بہت عظیم قدم تھا۔ جن کمزور خاندانوں، افراد اور بزرگوں کی ہم نے مدد کی ہے، ان میں سے زیادہ تر اپنی صحت کے مسائل سے نمٹ رہے ہیں۔ اچھی صحت برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے تازہ پھل اور سبزیوں کی ضروری ہیں۔ گارڈن پروگرام ایک قابل قدر ذریعہ تھا جس نے ان گھرانوں جنہیں خوراک کی کمی ہو سکتی ہے، کو نہایت ضروری پیداوار فراہم کی۔"

- اینی بیون، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، نائٹس ٹیبل

"برامپٹن بیک یارڈ گارڈن پروگرام ہماری ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ریجنریشن آؤٹ ریچ کمیونٹی کو موصول ہونے والی تازہ پیداوار نے برامپٹن کے ان رہائشیوں کی زندگی پر براہ راست مفید اثر ڈالا ہے جنہوں نے ہمارے خوراک کے پروگرام اور ایمرجنسی فوڈ بینک تک رسائی حاصل کی ہے۔ ہمارے رہائشیوں کو حصہ دینے میں حوصلہ افزائی کرنے کی سٹی کی بصارت پر ہم تہ دل سے مشکور ہیں۔"

- ٹیڈ براؤن، سی ای او، ریجنریشن آؤٹ ریچ کمیونٹی

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca